



سوال

کچھ لوگ جمع ہو کر ایک ایک پارہ پڑھیں تو کیا یہ ایک قرآن ختم کرنا شمار ہوگا

جواب

الحمد للہ

میری رائے کے مطابق یہ عمل ناجائز ہے اور میرے علم کے مطابق نہ ہی ایسا کام سلف سے مستقول ہے، اور انسان کو ثواب تو اس سے حاصل ہوگا جو وہ خود پڑھے یا پھر جس قرأت سے استفادہ کے لئے خاموشی اختیار کرے۔

لیکن غیر کی قرأت جس کو وہ سنے بھی نہ اس کا اجر تو اس کلمے گا جس نے اس کی تلاوت کی، اور ان لوگوں کا پڑھا ہوا قرآن مجید ختم کرنا شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ ہر ایک نے ایک ایک پارہ پڑھا ہے تو ہر ایک کو اس ایک پارے کا اجر و ثواب ملے گا۔

ان لوگوں کو ایسا کام نہیں کرنا چاہئے بلکہ ایک پڑھے اور باقی سنیں اور یا پھر ہر ایک اپنا قرآن مکمل ختم کرے اس میں دوسرے کا اعتبار نہ کرے۔